

ریاستی امتحانات

طلبا اور اہل خانہ کے لیے مفید نکات



آپ کے بچے کے اسکول کے پاس متعدد طریقے ہیں جن سے وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ طلبا کتنی اچھی طرح سے سیکھ رہے ہیں، بشمول، کلاس کا کام، پروجیکٹس، اور کوئزز۔ جلد ہی ہونے والے ریاستی امتحانات یہ معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ ہیں کہ آپ کا بچہ ریاضی اور فنون انگریزی زبان میں کس طرح پیش رفت کر رہا ہے۔ یہ طلبا کے لیے نہایت اہم ہیں، لیکن اساتذہ اور اسکولوں کے لیے بھی، جو ان نتائج کو تعلیم کو بہتر بنانے اور تمام طلبا کو اعانت فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذیل میں ریاستی امتحانات کے بارے میں معلومات ہیں جنکی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے: اگلے گریڈ میں ترقی اور دیگر اسکولوں میں داخلے صرف ریاستی امتحانات کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ ایک اسکول کا عملہ اور والدین اپنے اسکول کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔ ہم اس آگہی کو تسلیم کرتے ہیں اور اسکول برادری کو انکے اسکول کو بہتر بنانے اور تمام طلبا کے نتائج میں اضافہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنانے اور نافذ کرنے کے لیے ملکر کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔

مفید نکات

- امتحان سے ایک رات پہلے، اپنے بچے کو ہر چیز آخری وقت پر نہ کرنے کا کہیں
- ایک پسندیدہ کھانے سے لطف اندوز ہوں اور ملکر ایک پُرتفریح شام گزاریں
- اس کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ رات کو اچھی نیند سوئے؛ آرام کرنا اہم ہے
- صبح کو اپنے بچے کی گھر پر یا اسکول میں ناشتہ کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔
- یہ وضاحت کریں کہ بعض اوقات ہر ایک فکر مند ہوتا ہے اور فکر کام کو مکمل کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے
- اپنے بچے کو بتائیں کہ آپ کو اس کی قابلیت پر اعتماد ہے۔

اہم تبدیلیاں

والدین اور معلمین کی جانب سے تشویشات کے جواب میں، پچھلے سال، ریاست نے امتحانات میں یہ تبدیلیاں کی تھیں جو اس سال بھی موثر ہیں۔

- کم سوالات
- طلبا کے لیے وقت کی کوئی حد نہیں جب تک کہ وہ کارآمد طریقے سے کام کرتے رہیں — طلبا کے لیے دباؤ کم کرتا ہے اور انہیں ان کی رفتار سے کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔
- اساتذہ امتحانات تیار کرنے میں مضبوط کردار ادا کرتے ہیں، اور امتحانات کے نتائج اساتذہ کی تشخیصات پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ نیویارک شہر کے اساتذہ کلاس روم میں بھرپور تعلیماتی تدریس دینے کے لیے ہوتے ہیں، ناکہ صرف ایک امتحان کے لیے تدریس دینے کے لیے۔